

## 180824- استجرا کرتے ہوئے کپڑے کو لگ جانے والے پانی کا حکم

سوال

استجرا کرتے ہوئے ٹوٹی سے نکلنے والا پانی اگر کپڑوں کو لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

پسندیدہ جواب

پانی کے نل سے نکلنے والا پانی اگر جسم یا کپڑے کو لگ جاتا ہے تو یقیناً یہ پانی پاک ہے؛ کیونکہ نل سے نکلنے والا پانی پاک ہوتا ہے۔

لیکن اگر کپڑے کو لگنے والا پانی اس پانی میں سے ہے جس سے نجاست دھوئی جاتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں اگر یہ پانی نجاست کو لگ کر کپڑے کے کو لگا ہے اور اس کا رنگ اور بو وغیرہ بھی نجاست کی وجہ سے بدل چکے ہیں تو پھر یہ پانی نجس ہے، لہذا کپڑے یا جسم جماں بھی یہ پانی لگے گا تو اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ پانی نجاست کو لگ کر کپڑے یا جسم کو لگا لیکن اس کا رنگ یا بو وغیرہ نہیں بدلا تو یہ پانی پاک ہے، اس کے لئے سچھ نہیں ہو گا۔

بھی امام مالک رحمہ اللہ کا موقف ہے، اس بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ "الموسوعۃ الفقہیۃ" (29/99) کا مطالعہ کریں۔

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ایسے مسائل میں شیطان بھی وسو سے ڈال سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان بلا وجد غیر شرعی تشدد میں بٹلا ہو سکتا ہے، اس لیے ٹھانے حاجت کرتے ہوئے پانی کے اڑنے والے چھینٹوں کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر واقعی مسلمان کو یقین ہو کہ پانی نجس ہے تو پھر اس جگہ یا کپڑے کے کو دھولینا چاہیے، پانی کی نجاست رنگ اور بو سے پہچانی جاسکتی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتیبہ میں:

"پانی ذاتی طور پر پاک ہے، لیکن اگر اس میں نجاست شامل ہو جائے اور اس میں نجاست کی علامات بھی ظاہر ہوں تو اس پانی کو استعمال کرنا اس نجاست کو استعمال کرنا ہو گا؛ اسی لیے اس نجاست کے شامل ہونے کی وجہ سے اس پانی کو استعمال کرنا منع ہے، نہ کہ یہ پانی ذاتی طور پر ناپاک تھا، لہذا نجاست کے شامل ہونے کی اگر کوئی واضح علامت نہ ہو پانی صاف اور پاک بھی لگے تو پھر پانی کے بارے میں نجس ہونے کا خدشہ رکھنا اور تجھیسی و اندازے لگانا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے مترادف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں سے ختم کر دیا ہے، نیز ہماری شریعت میں سے ختم کر دینے گئے بوجھ اور تکلیف میں سے ہے۔

اور یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی عورت کے گھر سے وضو فرمایا، حالانکہ یہ احتمال وہاں بھی موجود تھا، اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک دوست کے ساتھ پانی کے ایک پر نالے کے پاس سے گزرے تو آپ کے دوست نے پر نالے والے سے پوچھا پر نالے کا پانی پاک ہے یا نجس؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

پر نالے والے آپ کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؛ کیونکہ یہ وضاحت پوچھنا اس پر ضروری نہیں ہے۔

اس مسئلے میں ائمہ کرام جیسے کہ امام احمد وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ اگر کسی پر نالے والے سے پانی گرے اور اس پانی کے نجس ہونے کی کوئی علامت بھی نظر نہ آئے تو اس کے بارے میں سوال پوچھنا لازم نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے۔ "ختم شد"

"الفتاویٰ الکبریٰ" (226، 1/225)

اسی طرح شیع بن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا:

"ایک شخص قضاۓ حاجت کی بجائے پر و منور کرتا ہے اور احتمال ہے کہ اس کے کپڑے نجس ہو جائیں گے تو کیا اس پر کپڑوں کو دھونا ضروری ہے؟"

انہوں نے جواب میں فرمایا:

"اس سوال کا جواب دینے سے قبل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ:

الحمد للہ، ہماری شریعت ہر اعتبار سے کامل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ انسانی فطرت کے موافق بھی؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کو آسان اور سلسل بنایا ہے، بلکہ ہماری شریعت تو ایسے احکام لے کر آتی ہے جس میں انسان کو بے بنیاد و سوسوں اور خیالات سے دور رکھا گیا ہے۔ اس بنابر انسان کے کپڑوں کا بنیادی طور پر حکم تو یہ ہے کہ کپڑے پاک ہوتے ہیں تا آں کہ بدن اور کپڑوں پر نجاست کے لگنے کا یقین ہو جائے۔ اس بنیادی اصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلیل ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اسے نماز کے دوران و ضوئی نماز کا شکر رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جب تک نماز کے دوران ہو اخارج ہونے کی آواز نہ سن لے یا بونہ سونگھ لے) اس لیے اصولی حکم یہ ہے کہ انسان اپنی حالت پر باقی ہوتا ہے تا آنکہ اس کے خلاف کوئی دلیل مل جائے۔

تو جوں کپڑوں کے ساتھ وہ قضاۓ حاجت کرنے کے لیے حمام میں داخل ہوئے ہیں جیسے کہ سائل نے ذکر بھی کیا ہے پھر اسے پانی لگ گیا تو کون کہتا ہے کہ کپڑے کو لگنے والی رطوبت نجاست، یا پیشاب یا پاکانے کی وجہ سے ناپاک ہو جانے والے پانی کی وجہ سے ہے؟

تو اگر ہم اس بارے میں یقینی بات نہیں کر سکتے تو اصل حکم یہی ہے کہ یہ رطوبت پاک ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کبھی غالب گمان ہو سکتا ہے کہ جسم یا کپڑے کو لگنے والی رطوبت نجاست ہو سکتی ہے، لیکن جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے تو اصل بنیادی حکم یہی ہے کہ ہمارا جسم یا کپڑا پاک ہے۔

اس لیے اس سوال کے جواب میں ہم کہیں گے کہ: جب تک انہیں کسی نجس پھیز کے لگنے کا یقین نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کا اصل حکم یعنی طہارت کا حکم لگے گا، چنانچہ ان پر اپنے کپڑوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، انہی کپڑوں میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم "ختم شد  
"مجموع فتاویٰ ابن عثیمین" (11/سوال نمبر: 23)

واللہ اعلم